

## (12) QURAN ON GOOD DEED BAD DEED AND RECOMPENSE

نیک عمل برے کام اور بدلہ پر قرآن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### (1). INTRODUCTION: تعارف:

Our previous posts from serial one to eleven are available on our free website [www.Elmdeen.com](http://www.Elmdeen.com) which was launched forty days ago. Till today there are 7000 visitors which are shown on the last page of website. Articles and texts on knowledge of DEEN based on QURAN are being added day to day. Here we will study "12-Qurqn on Good Deed, Bad Deed and Recompense. "Our nature and quality of deeds mostly depend on our intention and level of knowledge."

www.Elmdeen.com سیریل ایک سے گیارہ تک ہماری پچھلی پوسٹس ہماری مفت ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

جس کا آغاز چالیس دن پہلے کیا گیا تھا۔ آج تک 7000 وزیٹرز ہیں جو ویب سائٹ کے آخری صفحے پر دکھانے گئے ہیں۔ قرآن پر مبنی علم دین پر مضامین اور نصوص روز بروز شامل کیے جا رہے ہیں۔ یہاں ہم "12-قرآن نیک، برے عمل اور جزا کا مطالعہ کریں گے۔" ہماری نوعیت اور اعمال کا معیار زیادہ تر ہماری نیت اور علم کی سطح پر منحصر ہے۔

پس منظر: BACKGROUND:

کائنات کی تخلیق: CREATION OF UNIVERSE:

The Qur'an speaks extensively about the creation of the universe (السموات والأرض) to show Allah's power, wisdom, and purpose. **The purpose of creation centers on (i)worshipping Allah, (ii) knowing Allah (iii) testing deeds and (iv) establishing accountability of reward and punishment (jaza and Saza-- جزا اور سزا**

اللہ کی قدرت، حکمت اور مقصد کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن کائنات کی تخلیق (السموات والأرض) کے بارے میں وسیع پیمانے پر بات کرتا (جزا و سزا کا احتساب کرنا۔ iv) اعمال کی جانچ کرنا اور (iii) اللہ کو جاننا (ii) اللہ کی عبادت، (آپے)۔ تخلیق کا مقصد

Baqra-2:117. "He is' the Originator of the heavens and the earth! When He decrees a matter, He simply tells it, "Be!" And it is! " Dr. Mustafā Khattab.

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (The) Originator (of) the heavens (and) the earth And when He decrees a matter He says [so] only a matter He decrees And when He says [so] only a matter He decrees (117) and it becomes Be to it He says [so] only a matter He decrees

اودھ زمین و آسمان کا ابتداء پیدا کرنے والا ہے وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جائے وہ وہی ہو جاتا ہے۔ [17:16]

Maeda-5:15-16. "There certainly has come to you from Allah a light and a clear Book, through which Allah guides those who seek His pleasure to the ways of peace, brings them out of darkness and into light by His Will, and guides them to the Straight Path." Khattab.

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ بِرِضْوَانِهِ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16)

(of the peace (to the) ways His pleasure seek (those) who Allah with it Guides (15) clear and a Book a light Allah from has come to you Surely

and brings them out from the darknesses to the light to the straight (the) way to and guides them by His permission the light to the darknesses from and brings them out

ہمارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آچلا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں جو رضائے رب کے وہی ہوں مسافتی کی راہیں بتاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور ارادہ کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے

فطرت سبق دیتی ہے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے۔ NATURE GIVES LESSON. ALLAH GIVES PROMISE:



The Bar-tailed Godwit migrates from Alaska to New Zealand and Australia primarily because of seasonal changes in food availability and breeding conditions.

These birds fly more than 10,000 km non-stop over the Pacific Ocean and stores large amounts of fat as energy reserve before migration and back to Alaska in summer season.

Ankabut-29:69. "And those who strive ((Jahadu) in Our (Cause) We will certainly guide them to Our Paths: for verily Allah is with those who do right (good)." — A. Yusuf Ali

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69) the good-doers surely (is) with Allah And indeed (to) Our ways We will surely, guide for Us strive And those who them

اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھادیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ ایک کاروں کا ساتھی ہے

Let us think over the Allah creation of some birds in nature, poet and philosopher Illama Eqbal stanza and command of Allah in this verse.....کریں۔ حکم پر غور کریں۔

**KNOWING ALLAH THRUH HIS CREATION: جاننا کے ذریعے جاننا**

To know Allah, we must engage in a journey of spiritual reflection, study, and consistent worship. **Quran teaches that**

**"knowing" Allah (Ma'rifah) is the primary purpose of human being and the foundation of faith.** Marifah is one component of worship. قرآن سکھاتا ہے کہ اللہ کو جاننا انسان کا بنیادی مقصد اور ایمان کی بنیاد ہے۔

Talaq-65:12. "It is Allāh who has created seven heavens and of the earth, the like of them.<sup>1</sup> [His] command descends among them so you may know that Allāh is over all things competent and that Allāh has encompassed all things in knowledge."

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَوَجْهَ الْأَرْضِ وَمِثْلَهُنَّ يَتَزَلَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
All-Powerful thing every (is) on Allah that that you may know between them the command Descends (the) like of them the earth and of heavens seven created (is) He Who Allah  
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمًا  
(12) (in) knowledge things all encompasses indeed Allah And that

اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور اسی کے مثال زمینیں بھی۔ اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تا کہ تم جان لو کہ اللہ

ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو باہتمام رکھا ہے

**(2): PURPOSE OF LIFE: WORSHIPPING ONE ALLAH AND SEEKING HIS PLEASURE:**

تخلیق کے مقصد کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے۔

*Seeking Pleasure of Allah is the main goal of life. Allah commands:*

Zariyat-51:56. "I have only created Jinn and humankind that they may worship Me."

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي  
(56) that they worship except and the mankind the jinn I have created And not Me

میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں

Explanation by Asad: Note – 38.

Thus, the innermost purpose of the creation of all rational beings is (i) their cognition (ma'rifah, Cognitions are mental activities that deal with knowledge.) of the existence of God and, hence, (ii) their conscious willingness to conform their own existence to whatever they may perceive of His will and plan: and it is this two fold concept of cognition and willingness that gives the deepest meaning to what the Qur'an describes as "worship" ('ibadah).

**WHAT IS WORSHIP? عبادت کیا ہے؟**

Dictionary meaning of worship is: to have or show strong feeling of respect and admiration for God.

In Arabic, worship is called "Ibaadah", which is noun - 'Abd', meaning 'a slave.' A slave is one who is expected to do whatever his master wills. In Islam, ibadah is "worship" which means obedience, submission and devotion to the Will of God. Worship involves striving to please Allah through actions, thoughts, and intentions, both internally and externally.

عبادت کے لغوی معنی ہیں: خدا کے لئے احترام اور تعریف کا مضبوط احساس رکھنا یا ظاہر کرنا۔ عربی میں عبادت کو 'عبادہ' کہا جاتا ہے، جس کا اسم 'عبد' سے گہرا تعلق ہے، جس کا مطلب ہے 'غلام'۔ غلام وہ ہوتا ہے جس سے توقع کی جاتی ہے کہ اس کا اقا جو چاہے کرے۔ اسلام میں، عبادت کا ترجمہ "عبادت" کے طور پر کیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے اطاعت، تسلیم، اور خدا کی مرضی کے لیے لگن۔ عبادت میں داخلی اور خارجی طور پر اعمال، خیالات اور ارادوں کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا شامل ہے۔

By its definition of "Worship", it means obedience and submission to the will of God."

عبادت کا مطلب ہے اطاعت اور خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔

Dictionary meaning: Obedience means: the act of doing what you are told, following rules or commands. The act of obedience does not necessarily include respect **Submission** fundamentally means to yield/surrender to the authority, control, or will of another. **Submission is not passive laziness. It is an internal commitment (intention) to align your desires and actions with what is right as per Allah's Will.**

Submission is to willingly place oneself under those in authority for compliance of order with an attitude of honor and respect. سر تسلیم خم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عزت اور احترام کے رویے کے ساتھ حکم کی تعمیل کے لیے اپنے آپ کو اختیار والوں کے ماتحت کرنا۔

Allah says: Imran 3:19 "Indeed, the religion before Allah is Islam." Islam means peace, or safety, or surrender or submission or yield to Allah's Will and guidance for compliance.

اسلام کا مطلب ہے امن، یا سلامتی، یا تسلیم کرنا یا اللہ کی مرضی اور رہنمائی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا

Zumar-39:11." Say, "I am commanded to worship Allah, being sincerely devoted to Him 'alone'. **And I am commanded to be the first of those who submit 'to His Will'.**" Dr. Mustafa Khattab.

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ  
(12) (of) those who submit (the) first I be that And I am commanded (11) (in) the religion to Him (being) sincere Allah I worship that [I] am commanded Indeed, I Say

تو کہہ دے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لئے عبادت کو خالص کر لوں اور مجھے فرمان دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا حکم بردار بن جاؤں

**PURPOSE OF WORSHIP: عبادت کا مقصد**

Taha-20:14. “Indeed, I am Allāh. There is no deity except Me, so worship Me and **establish prayer for My remembrance**. Saheeh International

○ لائق عبادت میرے سوا اور کوئی نہیں۔ تو میری ہی عبادت کرتا رہ اور میری یاد کے لئے نماز قائم رکھ ○

Baqra-2:21. “O mankind, worship your Lord, who created you and those before you, that you may become **righteous**. (Conscious of Him, Motaqqi).” — Saheeh International

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَاٰلِدِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾

(21) become righteous so that you may before you from and those created you the One Who your Lord worship mankind ○

تسبیح: اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے سب کو پیدا کیا۔ یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ [۳۱]

لوگو! بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گئے ہیں ان سب کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔

۲۲ یعنی زمین میں غلط بینی و غلط کاری سے اور آخرت میں خدا کے عذاب سے بچنے کی توقع۔

RELATIONSHIP AMONG WORSHIP, SALAT AND RIGHTEOUSNESS: صلوة اور عدل کے درمیان تعلق Hajj-22:77. “O you who have believed, **bow and prostrate and worship your Lord and do good - that you may succeed**.” — Saheeh International

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَاَقْلَبُوا الصُّلُوْبَ ﴿٧٧﴾

(77) be successful so that you may [the] good and do your Lord and worship and prostrate Bow O you who believe O you who believe O you who believe

اے ایمان والو! رکو سجود کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ○

YOU ARE THE BEST UMMA (PEOPLE) PRODUCED FOR MANKIND: آپ بنی نوع انسان کے لیے پیدا کی گئی بہترین امت ہیں Imran-3:110. “You are **the best nation (people) produced [as an example] for mankind**. You enjoin (urge, encourage) what is right (all that Islam has ordained) and forbid what is wrong ((all that Islam has forbidden), and believe in Allāh. If only the People of the Scripture had believed, it would have been better for them. Among them are believers, but most of them are **defiantly disobedient**.” — Saheeh International

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ﴿١١٠﴾

(110) defiantly (are) but most of them [the] (are) believers Among them for them good surely would have the Book (of) People (the) believed And if been

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے ہی پیدا کی گئی ہے۔ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو اگر اہل کتاب بھی ایمان

لاتے تو ان کے لئے بہتر تھا ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں ○

Imran-3:114. “They believe in Allāh and the Last Day, and they enjoin what is right and forbid what is wrong and **hasten to good deeds**. And those are among the **righteous (Salehin)**.” Saheeh International.

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَيُّمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسْرِعُوْنَ فِي الْاِحْسَانِ ﴿١١٤﴾

(114) the righteous (are) from And those the good deeds in and they hasten the wrong [from] and forbid [with] the right and they enjoin the Last and the Day in Allah They believe

○ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں یہ نیک بخت لوگ ہیں ○

Thus, worship of Allah consists of three parts or components-faith, prayer (Haququl Allah) and doing good (Haququl Abad). Let us observe above verses. اور (حقوق اللہ) نماز، ایمان، یا اجزاء پر مشتمل ہے۔ ایمان، نماز، (حقوق اللہ) اور (حق العباد)۔ انہی سے اوپر کی آیات کا مشاہدہ کریں۔



(3): WHAT AND WHY KNOWLEDGE: کیا اور کیوں علم:

FACULTY OF KNOWLEDGE FIRST GRANTED TO MANKIND: فیکلٹی آف نالج سب سے پہلے بنی نوع انسان کو عطا کی گئی۔ After creation of His Universe, Allah first granted knowledge to Adam. اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا

Baqra-2:31-32. “And **He taught Adam** the names - all of them. Then He showed them to the angels and said, ”





روئے، اور تاریخ، جدید سائنسی اور فلسفیانہ اصطلاحات میں، یہ الہی حکم کے ذریعہ تشکیل شدہ وجہ اور اثر کے قانون کی نمائندگی کرتا ہے۔ "سنت اللہ" کی اصطلاح سنت (طریقہ، رسم یا عادت) اور اللہ (خدا) سے ماخوذ ہے۔ یہ ان مقررہ اصولوں کی نمائندگی کرتا ہے جن کے ذریعے خدا اپنی تخلیق کا انتظام کرتا ہے۔ اس میں فزکس، کیمسٹری، اور بیالوجی کے قوانین شامل ہیں—جیسے کشش ثقل، تھر موڈینامکس، اور سیلولر ریسیپریشن۔ یہ تہذیبوں کے عروج و زوال، انصاف اور اخلاقی نتائج کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، بدعنوانی معاشرتی تنزلی کا باعث بنتی ہے، جبکہ انصاف استحکام لاتا ہے۔

**Sunnatullah: Allah governs His Universe through the Law of Cause and Effect.** سنت اللہ: اللہ اپنی کائنات کو سبب اور اثر کے قانون کے ذریعے چلاتا ہے۔

Raad-13:11. "For him [i.e., each or every one] are successive [angels] before and behind him who protect him by the decree of Allah. **Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves.** And when Allah intends for a people ill, there is no repelling it. And there is not for them besides Him any patron."

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ  
Indeed Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves

کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے  
cause effect

Enaam-6:164. "No one will reap except what they sow. ..."

وَلَا تَكْتَبُ كُفْرًا إِلَّا عَلَيْهِ  
And not every soul except against itself  
ہر شخص جو کفر کرتا ہے اس کا ذمہ وہ خود ہے

**Miracles as the Exception: معجزات بطور استثناء**

A miracle (*Mu'jizah*) occurs when God temporarily suspends or alters His own *Sunnatullah* to prove the authenticity of a Prophet. For example, when Prophet Abraham was thrown into the fire, God commanded the fire: "O fire, be coolness and safety upon Abraham" (Surah Al-Anbiya 21:69). The natural cause (fire) was momentarily stripped of its usual effect (burning) by the Creator of that law. **A Mu'jizah (معجزہ) is an extraordinary event performed by a Prophet,** by the permission of God, that surpasses the natural laws of the universe. The word comes from the Arabic root 'ajaza, which means "to incapacitate" or "to make impossible," because a miracle is something that ordinary human beings are completely incapable of replicating.

ایک معجزہ (مجیزہ) اس وقت ہوتا ہے جب خدا کسی نبی کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی سنت اللہ کو عارضی طور پر معطل یا بدل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو خدا نے آگ کو حکم دیا: "اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو" (سورۃ الانبیاء 21:69)۔ قدرتی سبب (آگ) کو اس قانون کے خالق نے اپنے معمول کے اثر (جلنے) سے لمحہ بہ لمحہ چھین لیا تھا۔ مجزہ (معجزہ) ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو کسی نبی کے ذریعے خدا کے حکم سے انجام دیا جاتا ہے، جو کائنات کے فطری قوانین سے بالاتر ہے۔ یہ لفظ عربی کی اصل 'عجازہ' سے آیا ہے جس کا مطلب ہے "نااہل کرنا" یا "ناممکن کرنا" کیونکہ معجزہ ایک ایسی چیز ہے جسے عام انسان نقل کرنے سے مکمل طور پر قاصر ہے۔

**قرآن عمل اور اطاعت کے لیے ہے: QURAN IS TO ACT AND OBEY:**

Nisa-4:59. "O you who have believed, **obey Allāh and obey the Messenger and those in authority** among you. And if you disagree over anything, refer it to Allāh and the Messenger, if you should believe in Allāh and the Last Day.

**That is the best [way] and best in result.**" — Saheeh International

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ واطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِیْكَ مِنَ الرَّسُوْلِ وَاَطِيعُوْا اللّٰهَ واطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِیْكَ مِنَ الرَّسُوْلِ  
O you who believe, obey Allah and obey the Messenger and those among you (having) authority and those the Messenger and obey Allah. Obey believe[d] who O you  
كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا  
That [the] Last and the Day in Allah believe you determination (59)

اے ایمان والو! فرما میری اور اللہ کی اور فرما میری اور تم میں سے اختیار والوں کی پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے رجوع کرو اللہ کی طرف اور

رسول کی طرف اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے

**PUNISHMENT OF DISOBEYING ALLAH'S COMMANDS:**

Zumar-39:13. "Say, "Indeed I fear, if I should disobey my Lord, the punishment of a tremendous Day."

قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ  
Say I fear indeed, I disobey if [I] fear indeed, the punishment my Lord I disobey if [I] fear indeed, a great (of) a Day

کہہ دے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے

**Ta-Ha -20:124. "And whoever turns away from My remembrance (message) – indeed, he will have a depressed life, and We will gather him on the Day of Resurrection blind."**

وَمَنْ اَعْرَضَ عَن ذِكْرِيْٓ فَاِنَّ لَهُ مَعِيْةً مِّنْكَ مُّضْمَرًا وَّنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰی  
And whoever turns away from My remembrance from turns away And whoever straitened (is) a life for him then indeed My remembrance from turns away And whoever him (124)

ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرنے اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے

☞ Understanding creation glorifies the Creator. One of the greatest ways of worshipping Allah is through 'ilm (knowledge).

**Qur'anic Logic: Reading → Understanding → Knowledge → Wisdom → Faith → Righteous Action → Worship**

## پڑھنا ← تفہیم ← علم ← حکمت ← ایمان ← صالح عمل ← عبادت

In short symbolically: READING -96:1 + UNDERSTANDING -43:3 → KNOWLEDGE-96:1-5

پڑھنا -96:1 + سمجھنا -43:3 ← علم -96:1-5

KNOWLEDGE + REASONING-67:10 + EXPERIENCE-6:11 → WISDOM-2:269

علم + استدلال-67:10 + تجربہ-6:11 ← حکمت-2:269

(4): WHAT IS DEED? WHAT WE DO? WHY WE DO? HOW WE DO?

ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیسے کرتے ہیں؟

In the Qur'an, the concept of a "deed" is usually expressed by the Arabic words 'amal (عمل) and fi'l (فعل), which mean action, work, or conduct. A deed is not just what a person does outwardly, it also includes intention, sincerity, and obedience to Allah. عمل صرف وہ نہیں ہے جو انسان ظاہری طور پر کرتا ہے، اس میں نیت، اخلاص اور اللہ کی اطاعت بھی شامل ہے۔

The dictionary meaning of deed is: something that you do; an action, a legal document; benefit or advantage to someone or something; having positive qualities. Good is generally considered to be the opposite of evil. صدقہ کے لغت کے معنی ہیں: غریب، بیمار، یا ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے فراخدلی سے کام یا عطیات (محبت کے ساتھ)؛ ایسا کام کرنا جو معاشرے کے لیے مفید ہو۔ بھلائی کے معنی ہیں: فائدہ کسی کو یا کسی چیز کو۔ مثبت خصوصیات کا حامل اچھائی کو عام طور پر برائی کا مخالف سمجھا جاتا ہے۔

WHY DEED IS NECESSARY? عمل کیوں ضروری ہے۔

We do things based on a mix of knowledge, spiritual needs, biological needs, psychological drives, and environmental influences. ہم علم، روحانی ضروریات، حیاتیاتی ضروریات، نفسیاتی حرکات اور ماحولیاتی اثرات کے مرکب کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔

We act to satisfy basic survival needs, pursue passion and love, conform to social pressure, and achieve goals for gratification or to avoid discomfort. Actions are often driven by neural processes and the need for purposeful, efficient behavior. In the Quranic worldview, belief alone is insufficient without corresponding actions and its accountability; the two are almost always paired together (e.g., "those who believe and do righteous deeds").

Tauba-9:105. "And say (O, Prophet) , "Do [as you will], for Allāh will see your deeds, and [so will] His Messenger and the believers. And you will be returned to the Knower of the unseen and the witnessed, and He will inform you of what you used to do."

وَقُلْ أَتَمَلُّوْا قَسْرِي اَللّٰهُ عَمَلِكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَرَسُوْلُهُ اِلَى وَسْرُوْنٍ اِلَى عَلِيْمٍ وَالْغَيْبِ وَاللّٰهْدُوْا وَتَعْمَلُوْنَ (105) do you used (to) of what then He will inform and the seen (of) the unseen (the) Knower to And you will be and the believers and His Messenger your deed then Allah will see then Allah will see Do And say

کہدے کہ تم مل کے جاؤ۔ تمہارے عمل اللہ آپ دیکھے گا اور اس کا رسول اور ایمان دار بھی پھر تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپے کئے جانے والا ہے۔ وہ تمہیں بتا دے گا جو کو تم کرتے رہے تھے

DEEDS NECESSARY FOR SPIRITUAL WORLD: To establish justice and accountability:

روحانی دنیا کے لیے ضروری اعمال: انصاف اور احتساب کا قیام

Jathiya-45:22. "Allah has created the heavens and the earth to manifest the truth, and to reward each soul according to its deeds, and none of them shall be wronged."

وَحَقَّقَ اَللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِالْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَلْبَسُوْنَ اَللّٰهُ اَعْمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَرَسُوْلُهُ اِلَى وَسْرُوْنٍ اِلَى عَلِيْمٍ وَالْغَيْبِ وَاللّٰهْدُوْا وَتَعْمَلُوْنَ (22) will not be wronged will not be wronged and they it has earned for what soul every and that may be recompensed in truth and the earth the heavens And Allah created And Allah created

آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کئے ہوئے کام کا پورا بدلہ دیا جائے ان پر ظلم نہ کیا جائے گا

DEEDS NECESSARY FOR MATERIAL WORLD FOR SURVIVAL: بقا کے لیے مادی دنیا کے لیے ضروری اعمال:

MOTIVATING FACTOR TO SEEK BOUNTY OF ALLAH: اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے ترغیب دینے والا عنصر

Motivate means: to give an incentive for action; to provide with a motive, or a cause or reason to act; incite; impel.

Motivation means: the reason or reasons one has for acting or behaving in a particular way:

Need means: to require (something) because it is essential or very important:

علم غیر مطمئن ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ Knowledge Fulfills the Unsatisfied Needs:

Abraham Maslow's hierarchy of needs: ابراہیم مسلو کی ضروریات کا درجہ بندی

The American motivation psychologist Abraham H. Maslow (1908–1970) developed the hierarchy of needs consisting of five hierarchic classes. According to Maslow, people are motivated by unsatisfied needs. The needs, listed from basic (lowest-earliest) to most complex (highest-latest) are as follows:

(i).Physiology (hunger, thirst, sleep, etc.) (ii).Safety/Security/Shelter/Health/Disease (iii).Social/Love/Friendship (iv).Self-esteem/Recognition/Achievement (v). Self actualization/achievement of full potential

امریکی محرک ماہر نفسیات ابراہیم ایچ مسلو (1908-1970) نے پانچ درجہ بندی کی کلاسوں پر مشتمل ضروریات کا درجہ بندی تیار کیا۔ مسلو کے مطابق، لوگ غیر مطمئن ضروریات سے متاثر ہوتے ہیں۔ بنیادی (سب سے کم ابتدائی) سے لے کر انتہائی پیچیدہ (اعلیٰ ترین) تک درج ذیل ضروریات ہیں:

(i) فزیالوجی (بھوک، پیاس، نیند، وغیرہ) (ii)۔ حفاظت/سیکیورٹی/پناہ/صحت/بیماری (iii)۔ سماجی/محبت/دوستی (iv) خود اعتمادی/پہچان/کامیابی (v)۔ خود کی حقیقت/مکمل صلاحیت کا حصول



Thus, we have to obey the command of Allah to seek the bounty as well as we have physical needs for survival in this world.

### WHY WE NEED EFFORT? EFFORT AND STRIVE ARE PART OF DEED:

ہمیں کوشش کی ضرورت کیوں ہے؟ کوشش اور جدوجہد عمل کا حصہ ہیں۔

The dictionary meaning of effort is: the physical or mental strength or energy that you need to do something.

Effort is the bridge between potential and reality. It is necessary because most things of value—skills, relationships, financial security, and personal growth—do not occur by chance; they require the deliberate application of energy and effort to overcome "entropy," or the natural tendency for things to remain at rest or decline.

The dictionary meaning of strive is: to make a great effort, often over a long period or against difficulties, to achieve something.

### IMPORTANCE AND RELATIONSHIP BETWEEN EFFORT AND DEED: کوشش اور عمل کے درمیان اہمیت اور تعلق

In the Qur'ān, effort (sa'y / سعی) and deeds (a'māl / أعمال) are closely connected—but they are not identical. The Qur'ān presents a clear relationship: *Effort is the striving behind an action, and deeds are the manifested outcome that Allah grants.* In the Quran, the relationship between effort and deed (Amal) is built on the principle that while human beings are responsible for their sincere striving (Sa'y), the ultimate outcome and reward are determined by Allah's grace and justice.

#### Difference between Effort and Deed:: کوشش اور عمل میں فرق

In the Quran, the distinction between **Effort (Sa'i)** and **Deed (Amal)** lies in what Allah measures for reward. While a deed is the completed action, the effort is the striving and struggle behind it, which Allah values even if the desired outcome is never reached.

#### Key Differences at a Glance:

Feature	Effort (Sa'i)	Deed (Amal)
Focus	The process, struggle, and exertion.	The completed act or tangible result.
Visibility	Often hidden; known only to Allah.	Apparent and can be seen by people.
Reward	Rewarded regardless of success or outcome.	Rewarded based on sincerity and correctness.
Basis		
Quranic Verse	"And that man shall have nothing but what he strives for" (53:39).	"...to test you [as to] which of you is best in deed" (67:2).

Nazm-53:39-42. "And that man can have nothing, but what he does. And that his deeds will be seen. Then he will be compensated with a full and the best recompense. That to thy Lord is the final Goal;" — A. Yusuf Ali

(40)	وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ	(39)	وَمَا سَعَىٰ	إِلَّا مَا سَعَىٰ	وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ
(42)	وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْمَنُومُ	(41)	وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْمَنُومُ	وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْمَنُومُ	وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْمَنُومُ
	the final goal (is) your Lord to		the fullest the recompense he will be recompensed for it		Then

اور یہ کہ ہر انسان کے لئے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی اور یہ کہ جنگ اس کی کوشش مقرب دیکھی جائے گی اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا

Ankabut-29:69. "And those who strive ((Jahadu) in Our (Cause) We will certainly guide them to Our Paths: for verily Allah is with those who do right (good)." — A. Yusuf Ali

(69)	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا مِنَّا	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا مِنَّا	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا مِنَّا	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا مِنَّا	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا مِنَّا
	the good-doers surely (is) with Allah And indeed (to) Our ways We will surely, guide for Us strive And those who them				

اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھادیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نیک کاروں کا ساتھی ہے

Striving (Sa'y): This term refers to the hard work, movement, and exertion behind an action.


#### (5): TYPE OF DEED: HOW WE DO: عمل کی قسم: ہم کیسے کرتے ہیں:

According to the Quran, human actions are broadly categorized based on their moral nature, spiritual value, and consequences in the afterlife. Deeds are broadly classified into "Good Deed" and "Bad Deed".

The Qur'an frequently contrasts good deeds (al-sāliḥāt) and bad deeds (al-sayyi'āt), teaching that every deed has consequences before Allah. قرآن اکثر اچھے اعمال (الصالحات) اور برے اعمال (الصیعت) میں تضاد بیان کرتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ اللہ کے سامنے ہے۔ Jathiya-45:15. "Whoever does a good deed - it is for himself; and whoever does evil - it is against it [i.e., the self or soul]. Then to your Lord you will be returned." — Saheeh International

(15)	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا	فَلِنَفْسِهِ	وَمَنْ أَسَاءَ	فَعَلَيْهَا	ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكَ تُرْجَعُونَ
	you will be returned your Lord to Then then it (is) against it does evil and whoever then it is for his soul a righteous deed does Whoever				

جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بدلے کے لئے اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے



Thus, in brief:

## BAD DEEDS: WHY HUMAN BEING COMITS SIN AND EVIL? برے اعمال: انسان گناہ اور برائی کیوں کرتا ہے

According to the Qur'an, human beings commit sin and evil because they have been given **free choice**, and are influenced by desires, greed, ignorance, Satan's whispers, and weaknesses of the self (nafs).

قرآن کے مطابق، انسان گناہ اور برائی کا ارتکاب اس لیے کرتا ہے کہ اسے آزادانہ انتخاب دیا گیا ہے، اور وہ خواہشات، لالچ، جہالت، شیطان کے وسوسوں اور نفس کی کمزوریوں سے متاثر ہوتے ہیں،

Human being is composed of: body, self (nafs), spirit(Ruh) or soul.

Nafs (نفس) is an Arabic word occurring in the Quran, literally meaning "self", and has been translated as "psyche", "ego" or "soul". Nafs in man is the totality of emotions, tendencies, desires, wishes, experiences, and our heredity characteristics; in short, it is man's personality.

In its primitive state the nafs has eight heads that must be defeated: False pride (Takabbur); Greed (Hirs); Envy (Hasad); Lust (Shahwah); lie; Anger; Fear and cowardness. In purified state, the nafs consists of: Compassion, justice, courage, patience, honesty, hopefulness, Reason and Knowledge etc.

### Evil/Sins Deeds (السینات – Sayyi'āt/ (ذنب) and Punishment (Recompense):

Sources/Causes of Evils/Sins: Lack of Understanding: برائیوں/گناہوں کے ذرائع/اسباب: فہم کی کمی

The Dictionary meaning of sin is: A sin is fundamentally an offense against religious, moral, or ethical laws. It involves an intentional or unintentional violation of what is considered right, whether through an action, a spoken word, or a conscious thought. گناہ بنیادی طور پر مذہبی، اخلاقی یا اخلاقی قوانین کے خلاف جرم ہے۔

Meaning of evil is: Evil is generally defined as profoundly immoral, wicked, or malevolent behavior. It encompasses actions, intentions, or forces that cause unnecessary pain, suffering, or destruction, and is typically viewed as the direct opposite or absence of good. برائی کی تعریف عام طور پر انتہائی غیر اخلاقی، بدکار، یا بدتمیزی سے کی جاتی ہے۔

In Islam, sin (often referred to as dhanb or ithm) is defined as any deliberate act that violates the commands of Allah as established in the Quran. Haraam is an Arabic term meaning "forbidden" or "sacred," representing the highest level of prohibition; committing a Haraam act is directly classified as a major sin (Kabirah).

Major sins (Kabā'ir / کبائر) – grave sins with severe warnings, punishment, curse, or Allah's anger.

Minor sins (Saghā'ir / صغائر) – lesser faults and mistakes that may be forgiven through repentance, prayer, and righteous deeds. Some of major sins and evils are given below:

گناہ اور برائی کے معنی: Meaning of Sin and Evil:

Feature	Sin (e.g., Dhanb, Ithm)	Evil (e.g., Sharr, Sayyi'ah)
Perspective	A transgression against God's Will.	A violation of moral standards or natural goodness.

### Punishments for sins and Evils:

(i). Greed: لالچ: Hell. Lail-92:8-11 (ii). Lying and Deceiving: جھوٹ اور دھوکہ: Curse-Imran-3:61. Hell-Nisa-4:145. (iii). Pride: تکبر کی سزا: Hell- Zummar-39:72. (iv) Criminals, Sinners: Hell- Zukhruf-43:74. (v). Disobeying Allah-Hell- Jinn- 72:23. (vi) Breaking Ties. Hell-Raad-13:25. Cruelty and wrong doers-Disgrace and severe punishment after life-Maeda-5:33

### RECOMPENSE: PUNISHMENT FOR EVIL DEEDS: بدلہ: برے کاموں کی سزا

Hijr-15:49-50. “[O Muḥammad], inform My servants that it is I who am the Forgiving, the Merciful, And that it is My punishment which is the painful punishment” — Saheeh International

﴿يُنَبِّئُ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٥٠﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥١﴾  
 (50) the most Merciful the Oft-Forgiving I am that I My slaves Inform (51) the most painful (is) the punishment it My punishment And that

میرے بندوں کو خبر کر دے کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت درد دہک دالے ہیں

Ankaboot-29:40. “So each We seized for his sin; and among them were those upon whom We sent a storm of stones, and among them were those who were seized by the blast [from the sky], and among them were those whom We caused the earth to swallow, and among them were those whom We drowned. And Allāh would not have wronged them, but it was they who were wronging themselves.” — Saheeh International

﴿فَلَوْلَا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِمْ فِي يَوْمٍ فَتَنٍ مِّنْ أَزْوَاجٍ مِّنَ السَّمَاءِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذْنَا مِنَ النَّارِ مَنًّا وَتَوَلَّىٰ وَوَجَّهُهُنَّ إِلَى الْكُفْرِ وَلَهُنَّ فِي الْكُفْرِ أُولُو الْأَرْحَامِ وَإِنَّ عَذَابَهُنَّ لَشَدِيدٌ﴾ ﴿٤٠﴾  
 (was he) who and of them the awful cry seized him (was he) who and of them a violent storm on him We sent (was he) who Then of them for his sin We seized So each  
 ﴿وَإِنَّ عَذَابَهُنَّ لَشَدِيدٌ﴾ ﴿٤٠﴾  
 (40) doing wrong themselves they were but to wrong them Allah was And not We drowned (was he) who and of them the earth him We caused to swallow

پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے

Taha-20:124. "And whoever turns away from My remembrance - indeed, he will have a depressed [i.e., difficult] life, and We will gather [i.e., raise] him on the Day of Resurrection blind." — Saheeh International

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) blind (of) the Resurrection (on the) Day and We will gather him

ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرنے اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے

Sajdah-32:21-22. "We will certainly make them taste some of the minor torment 'in this life' before the major torment 'of the Hereafter', so perhaps they will return 'to the Right Path'. And who does more wrong than the one who is reminded of Allah's revelations then turns away from them? We will surely inflict punishment upon the wicked.

— Dr. Mustafa Khattab.

وَلَنذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِّ أَلَدَّتْ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21) return so that they may the greater the punishment before the nearer the punishment of And surely, We will let them taste  
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ (22) (will) take retribution the criminals from Indeed, We from them he turns away then (of) his Lord of (the) Verses is reminded than (he) who (is) more unjust And who

بالمیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے اس کے سوا بھی چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیتوں سے وعظ کیا گیا۔ پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا یقین مانو کہ ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں

Ash-Shura-42:30. "And whatever strikes you of disaster - it is for what your hands have earned; but He pardons much." — Saheeh International

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَمَا كَانَ بِكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ مِّنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (30) much [from] But He pardons your hands have earned (is because) of what (the) misfortune of befalls you And whatever

مہمیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے اور بھی تو بہت سی باتوں سے وہ درگزر فرماتا ہے

DETAIL OF SOME SINS AND EVILS AND RECOMPENSE: تفصیل: اور جزا کی اور برائیوں اور جزا کی تفصیل:

(i). PUNISHMENT OF HEADLESSNESS: بیے حسی کی سزا

Araf-7:136. "So We inflicted punishment upon them, drowning them in the sea for denying Our signs and being heedless of them." — Dr. Mustafa Khattab. [Similar verse. Enam-6:44]

فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فِي الْيَمِّ يَأْتُونَ (136) heedless to them and they were Our Signs denied because they the sea in and We drowned from them So We took retribution

پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو دریا میں ڈبو دیا اس لئے کہ وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے غافل تھے

Nahl-16:108. "Those are the ones over whose hearts and hearing and vision Allāh has sealed, and it is those who are the heedless." — Saheeh International

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَعَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَصْبَحَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْعُفْلُوكُ (108) the heedless they are And those and their sight and their hearing their hearts over Allah has set a seal Allah has set a seal (are) the ones Those

یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور یہ لوگ غافل ہیں

(ii): Shirk (Associating partners with Allah) and Punishment: شرک (اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا) اور عذاب

Maeda-5:72. "Indeed, he who associates others with Allāh - Allāh has forbidden him Paradise, and his refuge is the Fire. And there are not for the wrongdoers any helpers." — Saheeh International

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ يَأْتِ اللَّهُ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (72) helpers any for the wrongdoers And not (will be) the Fire and his abode Paradise for him Allah (has) forbidden then surely with Allah associates partners who Indeed

- یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ اس پر قطعاً جنت کو حرام کر دیتا ہے اس کا ٹھکانا جہنم ہی ہے، گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں

(iii). GREED AND PUNISHMENT: لالچ اور سزا

Takathur-102:1-2 and 6. "Competition for more 'gains' diverts you 'from Allah', until you end up in 'your' graves..... But you will surely see the Hellfire." — Dr. Mustafa Khattab.

لَهَنَكَرُ ۱) the competition to increase (1) حَتَّىٰ ذُرِّيَّتُهُ الْمَقَابِرَ (2) the graves you visit (2) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) the Hellfire Surely you will see (6)

زیادتی جاہت نے جنہیں غافل کر دیا ○ یہاں تک کہ تم قبرستان جا بیچو ○ تمہیں نہیں تم معلوم کرو گے ○ اور ابھی ابھی تمہیں علم ہو جائے گا ○ یوں تمہیں اگر تم یقینی طور پر حیران لے ○ بیچک تم جہنم کو دیکھ لو گے ○ اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے ○ پھر اس دن تم سے ضرور ضرور دونوں کا سوال ہوگا ○ 102:1-8.



Surah Al-Lail -92:8-11. “But he who is a **greedy, miser and thinks himself self-sufficient**; And gives the lie to the best, We will indeed make smooth for him the path to Misery; Nor will his wealth profit him when he falls headlong (into the Pit, **Hell**).” A. Yusuf Ali

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ (8) and considers himself free from need (8) وَكَذَّبَ بِأَفْسَرَىٰ (9) the best And denies (9) فَسَنُيَسِّرُهُ (10) Then We will ease him (10) لِلْعُسْرَىٰ towards [the] difficulty (10) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ (11) he falls when his wealth will avail And not (11)

یقیناً تمہاری کوشش مفقود ہے ○ باں جو محسوس دیتا رہے اور دوتا رہے ○ اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے ○ تو ہم بھی سچ سچ ہے آسانی میں پہنچا دیں ○ لیکن جو بخیل کرے اور بے پروا رہے ○ اور نیک بات کی تکذیب کرے ○ تو ہم بھی اسے سچ سچ سختی میں پہنچا دیں ○ اس کا مال اسے اندھا کرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا ○

(iv). LYING AND DECEIVING PUNISHMENT: جھوٹ اور دھوکہ دہی کی سزا

Dictionary meaning of Deceit is: the act of intentionally misleading, tricking, or hiding the truth to gain an advantage. It involves dishonesty through lies, omissions, or false appearances.


دھوکہ ہے: جان بوجھ کر گمراہ کرنا، یا حق کو چھپانے کا کام فائدہ حاصل کرنے کے لیے

Satan lied to Adam. He tempted him (Adam) to immortal life. Thus, lying is a characteristic of Satan.

Imran-3:61. “.....Then let us earnestly pray, and invoke the curse of Allah on those who lie!” — A. Yusuf Ali

ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61) the liars on (of) Allah the curse and [we] invoke let us pray humbly then (61)

اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔



Dhariyat-51:10-14. “**Condemned are the liars**; those who are ‘steeped’ ( in flood) in ignorance, totally heedless.

They ask ‘mockingly’, “When is this Day of Judgment?” **‘It is’ the Day they will be tormented over the Fire.** “They will be told, “Taste your torment! This is what you sought to hasten.” Dr. Mustafa Khattab.

قِيلَ لِّلْمُتَّصِلِينَ (10) the liars Cursed be (10) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (11) (of) heedlessness flood (are) in [they] Those who (11) يَوْمَ الْقِيَامِ (12) (of) Judgment (is) the Day When They ask (12)

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُنْفَتُونَ (13) will be tried the Fire over they A Day (13) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِرُءُوسِكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ (14) seeking to hasten for it you were (is) what This your trial Taste (14)

بے سند باتیں بتانے والے عمارت کر دیے گئے ○ جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں ○ پوچھتے ہیں کہ یوم القیام کیسے ہوگا ○ ہاں یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر لٹے سیدھے پڑیں گے ○ اپنی سزا کا مزہ چکھو یہی ہے جس کی تم جلدی بھارتے تھے ○

(v). HYPOCRITES: منافق

Hypocrite means: a person who “says one thing but does another; a person who puts on a false appearance of virtue or religion.

منافق کا مطلب ہے: وہ شخص جو “ایک بات کہتا ہے لیکن کرتا ہے دوسرا؛ وہ شخص جو فضیلت یا مذہب کا جھوٹا روپ دھارتا ہے۔

Nisa-4:145. “Indeed, the hypocrites will be in the lowest depths of the Fire - and never will you find for them a helper.” — Saheeh International

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145) any helper for them you will find and never the Fire of the lowest the depths (will be) in the hypocrites Indeed (145)

اساتق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے۔ تاہم ہے کہ تو ان کو کوئی مددگار پالے ○

(vi): ARROGANCE AND PRIDE PUNISHMENT: تکبر اور غرور کی سزا

We all know that pride is the the first evil for which Satan was cursed by Allah. Out of pride and arrogance, Satan decided to defy the command of Allah the Almighty and refused to prostrate before Adam.

ہم سب جانتے ہیں کہ غرور وہ پہلی برائی ہے جس کے لیے اللہ نے شیطان کو لعنت بھیجی تھی۔ غرور و تکبر کی وجہ سے شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کا فیصلہ کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔

The dictionary meaning of pride is: A sense of one's own proper dignity or value; self-respect.; consciousness of one's own dignity. Arrogant: An excessively high opinion of oneself; conceit, haughtiness.

Nisa-4:36. "Worship Allah and associate nothing with Him, and to parents do good, and to relatives, orphans, the needy, the near neighbor, the neighbor farther away, the companion at your side, the traveler, and those whom your right hands possess. **Indeed, Allah does not like those who are self-deluding (proud) and boastful.**" [Sahih International]

یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور جھٹی خوروں کو پسند نہیں فرماتا ○



PROUD CAT LOOKING IN MIRROR

Nahl-16:23. "Undoubtedly Allah doth know what they conceal, and what they reveal: verily He loveth not the arrogant." — A. Yusuf Ali

لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْتُورُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُمْ لَا يُخْبِتُونَ الْمُسْتَكْبِرِينَ ○

(23) the arrogant ones love (does) not Indeed, He they reveal and what they conceal what knows Allah that No doubt No doubt

بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے چھپائیں اور جسے ظاہر کریں، بخوبی جانتا ہے وہ خود کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ○

Hajj-22:9. "Twisting his neck [in arrogance] to mislead [people] from the way of Allāh. **For him in this world is disgrace,** and We will make him taste on the Day of Resurrection the punishment of the **Burning Fire** [while it is said]." — Saheeh International

ثَانِيًا يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَّهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَيُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ○

(9) (of) the Burning Fire (the) punishment (of) Resurrection (on) the Day and We will make (is) disgrace the world in For him (of) Allah (the) way from to mislead his neck Twisting him taste

اپنا بازو موڑنے والا میں کر اس لئے کہ راہ اللہ سے بہکانے سے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلیے گا عذاب چھائیں ○

Qassas-28:58. "And how many a city have We destroyed that was insolent (exulted, arrogant) in its [way of] living, and those are their dwellings which have not been inhabited after them except briefly.<sup>1</sup> And it is We who were the inheritors." — Saheeh International [Similar verses- Haqqah -69:6-8, Ankaboot-29:40]

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فِي الدُّنْيَا مَسْكَنُهُمْ لَا يَسْكُنُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ○

a little except after them after them have been inhabited not (are) their dwellings And these (in) its means of livelihood which exulted a town of We have destroyed And how many

وَكَانَ الْوَارِثِينَ ○

(58) (are) the inheritors We And indeed, [We]

ہم نے بہت سی وہ بشتیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش عشرت میں اترانے لگی تھیں یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ لے لینے والے ○

(vii): **BREAKING TIES PUNISHMENT:** ثانیہ تواتر سے کسی سزا

Raad-13:25. "But those who break the covenant of Allāh after contracting it and sever that which Allāh has ordered to be joined and spread corruption on earth - **for them is the curse, and they will have the worst home.<sup>1</sup> (Hell).**" — Saheeh International

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهٖ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ

Those the earth in and spread be joined to for it (by) Allah (has been) what and sever contracting it after from (of) Allah the covenant break And those who

لَهُمُ الْعَذَابُ الَّذِي لَمْ يَرْجُوا ○

(25) home (is) an evil and for them (is) the curse for them

رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط یا بندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان

راہطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ

لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت بُرا ٹھکانا ہے۔ (Raad-13:25)

گناہوں اور برائیوں سے کیسے بچیں؟ (6): HOW TO AVOID SINS AND EVILS:

According to the Qur'an, avoiding sins and evil is not achieved by willpower alone. It requires faith, knowledge, taqwa (God-consciousness), fear of Allah, self-discipline, remembrance of Allah, and righteous deeds.

قرآن کے مطابق گناہوں اور برائیوں سے بچنا صرف قوت ارادی سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایمان، علم، تقویٰ، اللہ کا خوف، ضبط نفس، اللہ کی یاد اور عمل صالح کی ضرورت ہے

The Quran teaches that Allah's mercy is vast and that He forgives all sins for those who sincerely turn to Him in repentance before death.

Zummar-39:53. "Say, "O My servants who have transgressed against themselves [by sinning], **do not despair of the mercy of Allāh. Indeed, Allāh forgives all sins.**<sup>1</sup> Indeed, it is He who is the Forgiving, the Merciful. And return [in repentance] to your Lord and submit to Him **before the punishment comes** upon you; then you will not be helped.

— Saheeh International. Footnote: For those who repent and correct themselves.

﴿قُلْ يٰعِبَادِيَ الّٰذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ

He Indeed He all the sins forgives Allah Indeed (of) Allah (the) Mercy of despair (do) not themselves against have transgressed Those who O My slaves Say

الْغَفُوْرُ ﴿٥٣﴾ وَارْجِعُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْأَلُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَّرُوْنَ ﴿٥٤﴾

(53) the Most Merciful (is) the Oft-Forgiving (54) you will be helped not then the punishment comes to you [that] before before to Him and submit your Lord to And turn

Translation by Ibn Kathir:

میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ۔ بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جگ پڑو اور اس کی حکم برداری کئے چلے جاؤ۔ اس سے قبل کہ تمہارے پاس

عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے ﴿Zummar-39:53-54﴾

Hud-11:3. "Ask your Sustainer to forgive you your sins, and then turn towards Him in repentance - [whereupon] He will grant you a goodly enjoyment of life [in this world] until a term set [by Him is fulfilled]; and [in the life to come] He will bestow upon everyone possessed of merit [a full reward for] his merit. But if you turn away, then, verily, I dread for you the suffering [which is bound to befall you] on that awesome Day!" [Asad]

وَ اِنْ اَسْتَعْفَرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ رُجُوْا اِلَيْهِ يَمَتِّعْكُمْ مَّتَعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَّ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اَعْيَابَكُمْ عَلٰٓىكُمْ عَذَابٌ يَّوْمَ كَبِيْرٍ ﴿٥٤﴾

But if His Grace (of) grace owner (to) every And give appointed a term for a good enjoy He will let you to Him turn in repentance and (of) your Lord Seek forgiveness And that

(of) a Great Day (of) a Great Day (the) punishment for you fear then indeed, I you turn away

اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تم کو چھپاتا زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو جس کا فضل عطا کرتے گا لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہونک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ﴿Hud-11:3﴾

**NO REPENTANCE ACCEPTED NEAR DEATH:** موت کے قریب کوئی توبہ قبول نہیں

Nisa-4:18. "But repentance is not [accepted] of those who [continue to] do evil deeds up until, when death comes to one of them, he says, "Indeed, I have repented now," or of those who die while they are disbelievers. For them We have prepared a painful punishment." — Saheeh International

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ اِنّٰى نُبْتُ اَلَنْ يَّوْلَا اَلَّذِيْنَ

those who and not now repent Indeed I he says [the] death one of them approaches when until the evil deeds do for those who (is) the acceptance And not of repentance

يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كٰفِرًاۗٓ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٨﴾

a punishment for them We have prepared Those (are) disbelievers while they die

ان کی توبہ کی قبولیت کا وعدہ نہیں جو براہین کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی۔ زبان کی توبہ ہے جو ظہری مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھے ہیں

**FEAR ALLAH:** اللہ سے ڈرو

Hashr-59:18. "O you who have believed, **fear Allāh. And let every soul look to what it has put forth for tomorrow - and fear Allāh.** Indeed, Allāh is Aware of what you do." — Saheeh International

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَنْظُرُوْا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَّاَقْفُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

(18) you do of what (is) All-Aware Allah Indeed Allah and fear for tomorrow it has sent forth what every soul and let look Allah Fear believe you (who) O

مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور ہر عمل کو غور کرنا چاہئے کہ اس نے کل کے لئے کیا بھیج رکھا ہے؟ اور اللہ سے ڈرو تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ خبردار ہے

**TURN TO ALLAH:** اللہ کی طرف رجوع کرو

Ghafir/Momin: 40.13. He it is Who showeth you his Signs, and sendeth down sustenance for you from the sky: **but only those receive admonition who turn (to Allah).** [Yusuf] [Similar verse- Zumar-39:54]

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖٓ وَ يُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَآءِ رِزْقًا وَّمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُذِيْبُ ﴿١٣﴾

(13) turns (one) who except take heed But (does) not provision the sky from for you and sends down His Signs shows you (is) the One Who He

وہی ہے جو ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لئے آسمان سے روزی اتارتا ہے۔ نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو سمجھتے رہتے ہیں

**Methods of Purification of Self (Tazkia Nafs):** تزکیہ نفس کے طریقے

Ash-Shamsh-91:7-10. "And [by] the soul and He who proportioned it! And inspired it [with discernment of] its wickedness and its righteousness, he has succeeded who purifies it. And he has failed who instills it [with corruption]." [Sahih International]

وَنَقَّسَ وَوَسَّأَ وَسَوَّيَّا فَالْهَمَّهَا (7) فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) (8) and its righteousness (to distinguish) its wickedness And He inspired it (7) proportioned it and (He) Who And (the) soul (8) buries it who he fails And indeed (8) and its righteousness (to distinguish) its wickedness And He inspired it

قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی ○ پھر قسم ہے اس کے دل میں بدی اور نیکی ڈالنے کی ○ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہو ○ اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا ○

Ala-87:14-15. "He has certainly succeeded who purifies himself. And mentions (remembers) the name of his Lord and prays." — Saheeh International

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ قَرَّنَى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) (14) purifies (himself) (one) who has succeeded Certainly (15) and prays (of) his Lord (the) name And remembers

پیشک ان لوگوں نے فلاح پالی جو پاک ہو گئے ○ اور جنہوں نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتے رہے ○

**This verse beautifully summarizes Tazkiyah → Dhikr (remembrance of Allah) → Salah (prayer) → Success.**

#### ALLAH REMOVES AFFLICTIONS:

Naml-27:62. "Or, Who listens to the (soul) distressed when it calls on Him, and Who relieves its suffering, and makes you (mankind) inheritors (successors, Khalifa) of the earth? (Can there be another) god besides Allah? Little it is that ye heed!" — A. Yusuf Ali

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُنْتَظِرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْفِي السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَمْ يَكُنْ مَعَ اللَّهِ قِيلًا مَا تَدَّكَّرْتُمْ (62) you remember (is) what Little Allah with Is there any god (of) the earth inheritors and makes you the evil and He removes he calls Him when (to) the distressed responds Or Who

بے کسی کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کرے سختی کو دور کر دیتا ہے؟ اور تمہیں زمین کے نائب بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور مبنوہ ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو ○

(7): LIFE IS A TEST OF DEED? WHO IS BEST IN DEED? زندگی میں امتحان:

**Ibtīlā** (إِبْتِلَاءٌ) primarily means "trial," "test," or "affliction" in Arabic. The Qur'an presents **life as a test (ibtīlā)** in which human beings are examined through their **deeds (a' māl)**—not merely what they believe, but how they act upon it. In an Islamic context, it refers to the concept that life is a series of tests from God designed to purify the heart, elevate one's spiritual rank, and distinguish sincerity from hypocrisy. *Unlike a punishment ('uqūbah), which is a consequence of sin, a trial is seen as a "merciful gift" or "refinement" to bring a person closer to their creator.*

Mulk- 67:2. "He Who created Death and Life that He may try (test you) **which of you is best in deed**: and He is the Exalted in Might, Oft-Forgiving." [Yusuf] [Similar verse: (7:54), (10:3), (11:7), (25:59), (32:4), (50:38), (57:4)]

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (2) the Oft-Forgiving (is) the All-Mighty And He (in) deed (is) best which of you that He may test and life death created The One Who you

بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ○ جس نے موت اور حیات کو اس لئے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کر تم میں سے اچھے کاموں کو ثابت کرے؟ جو غالب اور بخشنے والا ہے ○

#### PURPOSE OF TEST: امتحان کا مقصد

Ankaboot-29:2-3. "Do men think that they will be left alone on saying, "We believe", and that they will not be tested? We did test those before them, and **Allah will certainly know those who are true from those who are false.**"— A. Yusuf Ali

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَبْعَثُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) will not be tested will not be tested and they We believe they say because they will be left that the people Do think وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3) the liars and He will surely make evident (are) truthful those who And Allah will surely make evident And Allah will surely make evident (were) before them (were) before them those who We tested And indeed

کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں پھر آزمائے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے انہوں کو بھی ہم نے خوب جانچا لیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں ○

Imrann-3:186. "Ye shall certainly be **tried and tested in your possessions and in your personal selves**; and ye shall certainly hear much that will grieve you from those who received the Book before you and from those who worship many gods. But if ye persevere patiently and guard against evil then that will be a determining factor in all affairs."

لَسْتُمْ بَعْدَ أَنْ يَأْمُرَكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ وَلَنْ تَصْبِرُوا وَلَا كَثِيرًا أَدَّى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186) (of) determination the matters (is) of that then indeed and fear (Allah) you are patient and if many hurtful things

یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دینے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی امت کا کام ہے

Yusuf Ali Translation Note Number : 493:

Not wealth and possessions only (or want of them), are the means of our trial. **All our personal talents, knowledge, opportunities, and their opposites, -in fact everything** that happens to us and makes up our personality is a means of our testing. So is our Faith: we shall have to put up for that many insults from those who do not share it.

صرف مال و دولت ہی نہیں (یا ان کی ضرورت) ہماری آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ ہماری تمام ذاتی صلاحیتیں، علم، مواقع، اور ان کے مخالف، درحقیقت ہر وہ چیز جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور ہماری شخصیت کو تشکیل دیتی ہے، ہماری آزمائش کا ذریعہ ہے۔ ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہے: ہمیں اس کے لیے ان لوگوں کی طرف سے بہت سی توہین برداشت کرنی پڑے گی جو اسے شیئر نہیں کرتے

**Nahl-16:93. ".....And you will surely be questioned about what you used to do." — Saheeh International**

وَلَمَّا تَسَأَلَنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  
(93) do you used (to) about what And surely you will be questioned

یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو۔ اس سے باز پرس کی جائے والی ہے

(8):HOW ALLAH JUDGES THE DEEDS OF MANKIND AND WHEN? اور کب؟ اعمال کا فیصلہ کیسے کرتا ہے اور کب؟

According to the Qur'an, Allah judges human deeds with perfect justice, complete knowledge, and full awareness of intentions. *Judgment occurs in stages: some consequences appear in this life, but the final and complete judgment will be on the Day of Resurrection.*

(1):Partial recompense in this worldly life (Dunyā) (2): Complete and final judgment in the Hereafter (Ākhirah) **The Divine Scales of Justice (Al-Mizan):**

The Mizan is the literal and spiritual scale set up on the Day of Resurrection to weigh human actions. Allah explicitly outlines this precise standard of justice in the Quran:

*Anbiya-21:47. "And We place the scales of justice for the Day of Resurrection, so no soul will be treated unjustly at all. And if there is [even] the weight of a mustard seed, We will bring it forth. And sufficient are We as accountant."* Saheeh International.

وَضَعْنَا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ آتَيْنَا  
We will bring a mustard of (of) a seed weight (there) be And if (in) anything any soul will be wronged so not (of) the Resurrection for (the) Day (of) the justice the scales And We set  
يَهَاتُ وَكُنَّا حَسِيبِينَ  
(47) (as) Reckoners (are) We And sufficient [with] it

ہم درمیان میں لا رہیں گے عدل کی ترازو کو قیامت کے دن۔ پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا ایک دانے کے برابر جو مل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم کانی ہیں حساب کرنے والے



(9):WHAT ARE GOOD DEEDS? نیک اعمال

In the Qur'ān, "good deeds" (الأعمال الصالحة) / *al-a 'māl aṣ-ṣāliḥah* are not limited to rituals; they include every action that is right in belief, sincere in intention, and beneficial in conduct.

The dictionary meaning of: *A good deed is a kind, morally right, or helpful action performed for another person or for the community, often without expecting anything in return.*

بھلائی کے معنی ہیں: فائدہ یا فائدہ کسی کو یا کسی چیز کو۔ مثبت خصوصیات کا حامل اچھائی کو عام طور پر برائی کا مخالف سمجھا جاتا ہے۔

ایک اچھا عمل ایک قسم کا، اخلاقی طور پر صحیح، یا مددگار عمل ہے جو کسی دوسرے شخص یا کمیونٹی کے لیے انجام دیا جاتا ہے، اکثر بدلے میں کسی چیز کی توقع کیے بغیر۔

**In Arabic, "Al-Khair" (الخير) means "the goodness" or "the good", referring to anything that is positive, beneficial, or virtuous.** The root word, khair, conveys a broad concept of well-being, benefit, and positive outcomes, encompassing ethical behavior, kindness, honesty, and acts of **charity**.

نوٹ: عربی میں، "الخیر" کا مطلب ہے "اچھی چیز"، کسی بھی ایسی چیز کا حوالہ دینا جو مثبت، فائدہ مند، یا نیک ہو۔ اصل لفظ، خیر، فلاح و بہبود، فائدے، اور مثبت نتائج کا ایک وسیع تصور پیش کرتا ہے، جس میں اخلاقی رویے، مہربانی، ایمانداری، اور خیراتی کام شامل ہیں۔

#### **RIGHTEOUS DEED: الأفعال الصالحة**

A righteous deed (*amal salih*) is considered a form of worship (*ibadah*), provided it is done with sincere intention (*ikhlas*) for the sake of Allah and aligns with Quran guidance.

عمل صالح کو عبادت کی ایک شکل سمجھا جاتا ہے، بشرطیکہ یہ اللہ کی خاطر خلوص نیت کے ساتھ کیا گیا ہو اور قرآن کی ہدایت کے مطابق ہو۔

**A deed in the Qur'an is not merely physical action but is valued based on faith (imān) and intention (niyyah).**

قرآن میں عمل محض جسمانی عمل نہیں ہے بلکہ اس کی قدر ایمان (ایمان) اور نیت کی بنیاد پر کی گئی ہے۔

The Quran presents righteousness as a multi-dimensional concept that includes righteousness -birr (2:177), uprightness (18:107 - صالح), God-consciousness (taqwa, 2:2-3), excellence (ihsan, 16:128 - إحسان), do-gooder (khyar, 2:148 - خیر), and what is universally recognized as good (3:110; ma'ruf, 3:104 - معروف). Each of these terms carries a unique shade of meaning, shaping a holistic view of what it means to live righteously as a believer in Submission Islam does not separate worldly life from worship. Work, learning, earning honestly, helping society, and caring for family can all become righteous deeds when done for Allah. ایمانداری سے کمانا، معاشرے کی مدد کرنا اور خاندان کی دیکھ بھال کرنا سب اعمال صالحہ بن سکتے ہیں جب اللہ کے لیے کیا جائے۔

#### **ALLAH COMMANDS BALANCED LIFE BETWEEN THIS WORLD AND AFTER WORLD:**

اللہ اس دنیا اور آخرت کے درمیان زندگی کو متوازن کرنے کا حکم دیتا ہے

Surah Al-Qasas (28:77) provides a **master blueprint for a balanced life**. It teaches Muslims to use their wealth and worldly blessings to earn rewards for the afterlife, to enjoy life's lawful pleasures, to treat others with kindness, and to avoid causing destruction on earth.

Qassas- 28:77. **"But seek, with the (wealth) which Allah has bestowed on thee the Home of the Hereafter nor forget thy portion (rightful share) in this world: but do thou good as Allah has been good to thee and seek not (occasions for) mischief in the land: for Allah loves not those who do mischief (corruption)."** [Yusuf Ali]

وَأَسْبَغْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الْكَافِرَاتِ الْأَخْرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْقَسَاةَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَذُوُ عِلْمٍ لِمَا يُعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾  
Allah has been good as And do good the world of your share forget and (do) not (of) the Hereafter the home Allah has given you Allah has given you through what But seek  
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْقَسَاةَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَذُوُ عِلْمٍ لِمَا يُعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾  
the corrupters love (does) not Allah Indeed the earth in corruption seek And (do) not to you Allah has been good

اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیوی حصے کو بھی نہ بھول اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا

ہے تو بھی سلوک کرتا رہ اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ رہا کرالیقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے

Hadid-57:7. "Believe in Allah and His Apostle and **spend (in charity) out of the (substance)** whereof He has made you heirs (وارث; **He has entrusted you with**). For those of you who believe and spend (in charity) for them is a great Reward. 5281." - Abdullah Yusuf Ali

وَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾  
(7) great (is) a reward for them and spend among you who believe And those therein trustees He has made you of what and spend and His Messenger in Allah Believe

اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے پس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیراتیں کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا

#### **وارث:**

Heirs; inheritors.

Explanation by Asad. "Footnote: 5. Implying that all that man "possesses" (wealth, knowledge, power etc.) is but held in trust from God, since "all that is in the heavens and on earth belongs to Him", whereas man is allowed only its usufruct (the legal right to use. Nazm-53:31).

Najm-53:31. **"And to Allāh belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth - that He may recompense (reward-punishment) those who do evil with [the penalty of] what they have done and recompense those who do good with the best [reward]."** — Saheeh International.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي الْأَرْضِ وَإِن كَانَ عَدُوٌّ لِلْإِنسَانِ لَتَرْجَاهُنَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾  
(31) with the best do good those who and recompense they have done with what do evil those who that He may the earth (is) in and whatever the heavens (is) in (is) whatever And for Allah recompense

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ بدکاروں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا اور نیک کاروں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے گا

**(10): WHAT ARE BEST DEEDS IN SIGHT OF ALLAH? اللہ کے نزدیک بہترین اعمال کون سے ہیں؟**



This verse highlights that when a person dies, their absolute highest priority and deepest regret will be the desire to return to earth just to give charity.

63:10. "And spend [in charity] from what We have provided you before death approaches one of you and he says, 'My Lord, if only You would delay me for a brief term so I would give charity and be among the righteous.'"

اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آجائے۔ تو کہنے لگے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی سی دیر کی ہمت کیوں نہیں دیتا کہ میں مدد کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں؟

**HADITH:** "When a human being dies, his deeds come to an end except for three: ongoing charity, beneficial knowledge, or a righteous child who prays for him." Common References: Sahih Muslim, Book of Wills (Kitab al-Wasiyyah). Hadith Number: 1631

راستبازی کی جامع تعریف

In the Qur'an, righteousness (نیکی/Birr) is not limited to rituals alone; it is a comprehensive way of life combining faith, character, fear of Allah and actions. قرآن میں، نیکی صرف رسومات تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک جامع طرز زندگی ہے جس میں ایمان، کردار، اللہ کا خوف اور اعمال شامل ہیں۔

Baqra-2:177. "Righteousness (Birr) is not that you turn your faces toward the east or the west, but [true] righteousness is (i) [in] one who believes in Allah, the Last Day, the angels, the Book, and the prophets (ii) and gives (spend) wealth, in spite of love for it, to relatives, orphans, the needy, the traveler, those who ask [for help],(iii) and for freeing slaves; (iv) [and who] establishes prayer and gives zakah; (v) [those who] fulfill their promise when they promise; (vi) and [those who] are patient in poverty and hardship (ailments) and during battle (panic). Those are the ones who have been true, and it is those who are the righteous. (Motaqqun)" [Sahih International]

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
[the] Last and the Day in Allah believes (is he) who the rightous[ness] [and] but and the west the east towards your faces you turn that [the] righteousness It is not  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْإِنْسَانَ  
the wayfarer and (of) and the needy and the orphans (of) the near relatives (to) those spite of his love (for in the wealth and gives and the Prophets and the Book and the Angels  
وَالسَّابِقِينَ فِي الْأَسْبَابِ وَالصَّالِينَ فِي الدُّعَاءِ وَالصَّالِينَ فِي الدُّعَاءِ وَالصَّالِينَ فِي الدُّعَاءِ وَالصَّالِينَ فِي الدُّعَاءِ  
in and those who are patient they make it when their covenant and those who fulfill the zakah and give the prayer and (who) establish freeing the necks and in and those who ask  
الْبِائِسَاتِ وَالصَّالِينَ فِي الدُّعَاءِ وَالصَّالِينَ فِي الدُّعَاءِ وَالصَّالِينَ فِي الدُّعَاءِ وَالصَّالِينَ فِي الدُّعَاءِ  
[are] the ones who Those (of) [the] stress and (the) time and [the] hardship [the] suffering  
(177)

نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف؛ بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتے داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور سافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلائے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور

زکوٰۃ دے۔ اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تمہاری وصیت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راستباز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ (BAQRA-2:177)

ان سب کے لیے دوڑ لگانیں جو اچھا ہے: خَيْرٌ - RACE TO ALL THAT IS GOOD

Baqra-2:148. "For each [religious following] is a [prayer] direction toward which it faces. So race to [all that is] good. Wherever you may be, Allāh will bring you forth [for judgement] all together. Indeed, Allāh is over all things competent." — Saheeh International. [Similar Verse-Maeda-5:48]

وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوَّلِيهَا فَاَنصَرَفُوا كَأَنَّهُمْ عَلِيمٌ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ رَبِّهِ  
[to] the good so race turns towards it he (is) a direction And for everyone  
(148) All-Powerful thing every (is) on Allah Indeed together (by) Allah you will bring you will be that Wherever

توجہ کرنا: ہر شخص ایک نایک طرف متوجہ ہو رہا ہے تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ جہاں کہیں بھی تم ہو گے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے [۱۴۸]

اللہ کی نظر میں سب سے شریف شخص کون ہے (11): WHO IS THE MOST NOBLE PERSON IN SIGHT OF ALLAH?

The Qur'an gives a very clear and powerful answer to this question.

The most noble person is the righteous (Motaqqi). سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔

Hujurat-49:13. "O mankind! indeed We have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble (honoured) of you in the sight of Allah is the most righteous<sup>1</sup> of you. Indeed, Allah is Knowing and Aware." [Saheeh International]. [Footnote-1: Taqwa = Fear of Allah, guarding one's tongue, hand, and heart from evils + Righteousness.]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
that you may and tribes nations and We made you and a female a male from created you Indeed, We O mankind O mankind  
now one another  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  
(13) All-Aware All-Knower (is) Allah Indeed most (is the) Allah near most noble (the) Indeed righteous of you of you

اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لئے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو تمہاری جماعتیں اور قبیلے بنا دیئے ہیں اللہ کے نزدیک

تم سب میں سے بڑا بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یقیناً مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے

NOTE: The dictionary meaning of piety is **dutiful devotion to God and observance of religious principles.**

**WHAT IS THE PLEASURE OF ALLAH (رضا اللہ)؟ (رضاء اللہ) کی رضا کیا ہے؟**

Meaning of Ridā Allāh – رضا اللہ in Arabic language?

Root Meaning of “Riḍā” (رضا): The word رضا (Riḍā) comes from the Arabic root ر-ض-و (R-D-W / R-D-Y).

**Basic meanings in Arabic: To be pleased; To be satisfied; To approve of something.** خوش ہونا؛ مطمئن ہونا؛ کسی چیز کی منظوری دینا

*In Islam, seeking the pleasure of Allah (Ridwan Allah) is considered the highest goal of a believer's life. It is a continuous journey of purifying one's heart and aligning every action with the Divine Will.*

اسلام میں رضائے الہی کا حصول مومن کی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد سمجھا جاتا ہے۔ یہ اپنے دل کو پاک کرنے اور ہر عمل کو رضائے الہی سے ہم آہنگ کرنے کا ایک مسلسل سفر ہے۔

**HOW TO SEEK THE PLEASURE OF ALLAH: اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جائے**

**RELATIONSHIP BETWEEN TAQWA, RIGHTEOUSNESS AND THE PLEASURE OF ALLAH:**

تقویٰ، نیکی اور اللہ کی رضا کے درمیان تعلق:

*The relationship between the pleasure of Allah (Riḍā Allāh) and piety (Taqwa / تقویٰ) is very deep and direct in the Qur'an. In simple terms:*

*Taqwa is the path, and the pleasure of Allah is the destination.* تقویٰ راستہ ہے اور اللہ کی خوشنودی منزل ہے۔

*In Islam, seeking the pleasure of Allah (Ridwan Allah) is considered the highest goal of a believer's life. It is a continuous journey of purifying one's heart and aligning every action with the Divine Will.*

اسلام میں رضائے الہی کا حصول مومن کی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد سمجھا جاتا ہے۔ یہ اپنے دل کو پاک کرنے اور ہر عمل کو رضائے الہی سے ہم آہنگ کرنے کا ایک مسلسل سفر ہے۔

Baiyinah-98:7-8. “Indeed, they who have **believed and done righteous deeds** - those are the **best of creatures**. Their reward with their Lord will be gardens of perpetual residence beneath which rivers flow, wherein they will abide forever, **Allāh being pleased with them and they with Him. That is for whoever has feared his Lord.**” — Saheeh International. ”

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُم خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا بِهِمْ (8) ذَٰلِكَ لِمَنْ فَتَنَهُ رَبُّهُ

the rivers underneath them from flow (of) Eternity Gardens their Lord (is) with Their reward (7) (of) the creatures (are the) best they those righteous deeds and do believe those who Indeed

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا بِهِمْ (8) ذَٰلِكَ لِمَنْ فَتَنَهُ رَبُّهُ

will abide therein forever Allah (will be) pleased with them and they (will be) pleased with Him That (is) for whoever feared (is) for whoever

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ستم کے مطابق نیک عمل کئے یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس بھٹی والی بہتیس ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور یہ اس سے یہ ہے اس کے لئے جو اپنے پروردگار سے ڈرے

Rum-30:38. “So give your close relatives their due, as well as the poor and the ‘needy’ traveller. **That is best for those who seek the pleasure of Allah,**<sup>1</sup> and it is they who will be successful.” [Khattab] ]

فَاتَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلِينَ وَآلِ الْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلِينَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (38)

(are) the successful they And those (of) Allah (the) Countenance desire for those who (is) best That and the wayfarer and the wayfarer and the poor. his right the relative the relative So give ones

Translation by Maudoodi:

پیس دے مومن، برشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین و مساکین کو

(دائیس کا حق)، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں

**DIFFERENCE BETWEEN TAQWA OF ALLAH AND FEAR OF ALLAH: تقویٰ اور اللہ کے خوف میں فرق:**

**Taqwa (تقویٰ) of Allah and Fear of Allah** are related but not identical concepts in the Qur'an. The root of **taqwa** means "to protect" or "to guard or to shield." In Islamic understanding, taqwa is to protect oneself from Allah's displeasure by obeying Him and avoiding what He has forbidden. (Baqra-2:21, worship to attain taqwa)

Fear of Allah is not terror; it is a reverent awareness, awe, and consciousness of Allah that leads a person to protect himself from sin and disobedience. This protective state is called **Taqwa**. *Fear of Allah (خشية khashyah, خوف khawf) produces Taqwa because when a person truly realizes Allah's greatness, justice, knowledge, and accountability, he becomes careful in his actions. Taqwa and Khawf (fear) are deeply interconnected, where fear serves as the driving force that leads to the protective shield of Taqwa.*

**Fear of Allah / Khawf —> Drives —> Obedience & Avoidance —> Taqwa —> Paradise**

**Thus, fear (khawf) is one element or one component of taqwa, while taqwa is the broader Qur'anic ideal of God-conscious, obedient, and righteous living.** اس طرح خوف تقویٰ کا ایک عنصر یا ایک جزو ہے، جب کہ تقویٰ خدا سے آگاہ، فرمانبردار اور صالح زندگی گزارنے کا وسیع تر قرآنی آئیڈیل ہے۔

Hashr-59:18. “O you who have believed, **fear Allāh. And let every soul look to what it has put forth for tomorrow - and fear Allāh.** Indeed, Allāh is Aware of what you do.” — Saheeh International

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُوا اللَّهُ وَأَنْتُمْ لِيَوْمِ لَغْوِ وَأَنْفُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾  
 (18) you do of what (is) All-Aware Allah Indeed Allah and fear for tomorrow it has sent forth what every soul and let look Allah Fear believe you (who) O

مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور ہر کھس کو غور کرنا چاہئے کہ اس نے کل کے لئے کیا بیج رکھا ہے؟ اور اللہ سے ڈرو تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ خبردار ہے

**DIFFERENCE BETWEEN TAQWA AND RIGHTEOUS DEED:** تقویٰ اور عمل صالح میں فرق

Taqwa is the inner state of God-consciousness, reverence, caution, and obedience to Allah.

Righteous deeds are the outward actions that result from that inner state.

A simple way to understand: Taqwa is the root; righteous deeds are the fruits. Taqwa is the intention and awareness; righteous deeds are the actions and behavior.

FAITH-49:14-15 + FEAR OF ALLAH-59:18 + RIGHTEOUSNESS-2:177 → TAQWA-2:2-3

ایمان - 49: 14-15 + اللہ کا خوف - 59: 18 + نیکی - 2: 177 < ----- < تقویٰ - 2: 2-3

TAQWA-2:2-3 + RIGHTEOUS DEED-2:177 → PLEASURE OF ALLAH-98:7-8

تقویٰ + عمل صالح ← اللہ کی رضا

**(12): ALLAH'S GRACE AND HIS APPROVAL MUST FOR RESULT OF DEEDS:**

اعمال کے نتیجے میں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی ضروری ہے

In the Qur'an, human effort ('amal) is essential/necessary but its acceptance, fruit, and ultimate success depend entirely on Allah's grace (faḍl), mercy (rahmah), and approval (ridā). The Qur'an repeatedly teaches that deeds alone are not sufficient unless Allah accepts and blesses them.

قرآن میں انسانی کوشش (عمل) ضروری ہے لیکن اس کی قبولیت، پھل اور حتمی کامیابی کا انحصار مکمل طور پر اللہ کے فضل، رحمت اور رضا پر ہے۔ قرآن بار بار سکھاتا ہے کہ صرف اعمال ہی کافی نہیں جب تک کہ اللہ ان کو قبول اور برکت نہ دے۔

Waqiyya-56:63-67. “And have you seen that [seed] which you sow? Is it you who makes it grow, or are We the grower? If We willed, We could make it [dry] debris, and you would remain in wonder, [Saying], “Indeed, we are [now] in debt; Rather, we have been deprived.” [Sahih International]

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ قَزَعْتُوهُنَّ أَمْ تَحْنُ أَتَزَعُونَهُنَّ أَمْ تَحْنُ أَتَزَعُونَهُنَّ ﴿٦٤﴾  
 (63) you sow what And do you see (64) the Ones Who grow (are) We or cause it to grow Is it you (who) (63) you sow what And do you see  
 قَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَلًا فَظَلَمْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمَعْرُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ تَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾  
 (67) (are) deprived we Nay (66) surely are laden with Indeed, we (65) wondering then you would debris We (would) surely, We willed If make it

اجھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو۔ یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں

بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑے گا بلکہ ہم بالکل بر نصیب ہی رہ گئے

Hajj-22:41. “They are` those who, if established in the land by Us, would perform prayer, pay alms-tax, encourage what is good, and forbid what is evil. **And with Allah rests the outcome of all affairs.**” — Dr. Mustafa Khattab.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾  
 (41) (of) the matters (is) the end And for Allah the wrong from and forbid the right and they enjoin zakah and they give the prayer they establish the land in We establish them if Those who

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جمادیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں ادا کریں اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع

کریں تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے

**WHOSE DEEDS ARE APPROVED BY ALLAH?** جن کے اعمال اللہ کو منظور ہیں

According to the Quran, Allah approves and accepts the deeds of those whose actions are accompanied by faith (īmān), sincerity, righteousness, and taqwā (God-consciousness).

قرآن کے مطابق، اللہ ان لوگوں کے اعمال کو منظور اور قبول کرتا ہے جن کے اعمال ایمان، اخلاص، راستبازی اور تقویٰ (خدا کے شعائر) کے ساتھ ہوتے ہیں۔

Maryam-19:96. As for those **who believe and do good**, the Most Compassionate will ‘certainly’ **bless them with ‘genuine’ love.**” Dr. Mustafa Khattab.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾  
 (96) affection the Most Gracious for them will bestow good deeds and did believed those who Indeed

بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کئے ہیں ان کے لئے اللہ رحمن محبت پیدا کر دے گا۔

Nisa-4:124. “And whoever does **righteous deeds**, whether male or female, while being a believer - those will **enter Paradise** and will not be wronged, [even as much as] the speck on a date seed.” — Saheeh International

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يظْلَمُونَ نَقِيرًا (124) (even as much as) they will be wronged and not Paradise will enter then those (is) a believer and he female or (the) male from [the] righteous [of] does And whoever deeds

جو ایماندار ہو مرد ہو یا عورت اور وہ نیک اعمال کرے یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور مجبور کے شکاف برابر ہی ان کا حق نہ مارا جائے گا

Maeda-5:27. “And recite to them the story of Adam's two sons, in truth, when they both made an offering [to Allāh], and it was accepted from one of them but was not accepted from the other. Said [the latter], "I will surely kill you." Said [the former], "Indeed, Allāh only accepts from the righteous [who fear Him].” Saheeh International.

\* وَأَقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلُ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) Said (the latter) the other from was accepted and not one of them from and it was accepted a sacrifice both offered when in truth (of) Adam (of) two sons the story to them And recite Surely I will kill you the God fearing from (does) Allah accepts Only Said (the former)

آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا عمل بھی نہیں سادو۔ ان دونوں نے ایک ایک نذرانہ پیش کیا۔ ان میں سے ایک کی نذر تو قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میں تو تجھے ماریں گا اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے

**DEEDS NOT ACCEPTED BY ALLAH:** اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے

Furqan-25:23. “And We will approach [i.e., regard] what they (sinners, criminals, wicked, liars, arrogant etc.) have done of deeds and make them as dust dispersed.” Saheeh International. Footnote- 1. On the Day of Judgement.

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ دُخَانًا وَمَنْوُورًا (23) dispersed (as) dust and We will make (the) deed(s) of they did whatever to And We will proceed them

انہوں نے جو جو اعمال کئے تھے، ہم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرف کر دیا

**(13): RECOMPENSE – REWARD OF GOOD DEEDS: اچھے اعمال کا اجر**

TO WHOM ALLAH BESTOWS HIS BLESSING AND MERCY? جس کو اللہ اپنی نعمت اور رحمت سے نوازتا ہے

According to the Quran, Allah's blessings (ni' mah), mercy (rahmah), and favor are granted to those who seek Him through faith, righteousness, gratitude, repentance, and obedience. ان کے مطابق، اللہ کی نعمتیں، رحمت، اور فضل ان لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے جو ایمان، نیکی، شکر، توبہ اور اطاعت کے ذریعے اس کی تلاش کرتے ہیں۔

Nisa-4:175. “O mankind, there has come to you a conclusive proof from your Lord, and We have sent down to you a clear light.<sup>1</sup> So those who believe in Allāh and hold fast (Quran) to Him - He will admit them to mercy from Himself and bounty and guide them to Himself on a straight path.” Saheeh International.

بَيِّنَاتٍ آتَيْنَاكَ قَدْ جَاءَكَ مِنْ رَبِّكَ إِثْبَاتٌ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ قُرْآنًا مُبِينًا (174) clear a light to you and We (have) sent your Lord from a convincing proof has come to you Surely mankind O قَامَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَتَّصَمُوا بِهِ فَمَحْبِبٌ جَاهِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَوْفَىٰ بِوَعْدِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَمَنْ يَعْمَلْ عَمَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (175) straight (on) a way to Himself and will guide them and Bounty from Himself Mercy in then He will admit to Him and held fast in Allah believed those who So as for them

اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا

**QURAN IS GUIDANCE FOR THOSE WHO FEAR ALLAH:** قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں

A Muttaqī (متق) is a person who has Taqwā—that is, deep God-consciousness, awareness, and fear of Allah that leads them to avoid sin and do what pleases Him. متقی وہ شخص ہے جس کے پاس تقویٰ ہے یعنی گہرا خدا شناسی، بیداری اور اللہ کا خوف جو اسے گناہ سے بچنے اور اس کی خوشنودی کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔

Baqra-2:2-3. “This is the Book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah<sup>1</sup>. Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what We have provided for them,” [Sahih International] Footnote-1: Literally, "those who have taqwā," i.e., who have piety, righteousness, fear and love of Allāh, and who take great care to avoid His displeasure.” — Saheeh International. For Allah's pleasure, see 98:7-8 above.

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3) they spend We have provided and out of what the prayer and establish in the unseen believe Those who (2) for the God- a Guidance in it doubt no (is) the book That conscious

اس کتاب (کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے) میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں۔<sup>1</sup>

(i): Anfal-8:29. “O you who have believed, if you fear Allāh, He will grant you a criterion<sup>1</sup> and will remove from you your



*Baqra-2:81-82. "Yes, [on the contrary], whoever earns evil and his sin has encompassed him - those are the companions of the Fire; they will abide therein eternally. "But those who have faith and work righteousness they are Companions of the Garden therein they will abide therein eternally." [Saheeh International]*

(81) (will) abide forever in it they (of) the Fire أَصْحَابُ (are the) فَأُولَئِكَ [so] those بِهِ his sins with and surrounded him وَأَحْطَتْ evil earned whoever Yes  
 (82) (will) abide forever in it they (of) Paradise أَصْحَابُ (are the) فَأُولَئِكَ those وَالَّذِينَ righteous deeds and did believed And those who

یقیناً جس نے بھی برے کام کئے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لئے جہنمی ہے۔ [۸۱] اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں

وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ [۸۲] (Baqra-2:81-82)

FAITH-49:14-5 + RIGHTEOUS DEED-2:177 → COMFORTABLE LIFE. DISBELIEF + EVIL DEED → DEPRESSED LIFE

ایمان + صالح عمل ← آرام دہ زندگی

بے اعتمادی + بدکاری ← افسردہ زندگی


FAITH + RIGHTEOUS DEED → PARADISE-2:82

DISBELIEF + EVIL DEED → HELL-2:81

ایمان + صالح عمل ← جنت

بے اعتمادی + بدکاری ← جہنم

As such, Illama Iqbal writes:



Compiled by:

Md Shoaib Khan

M.Sc(Math). Rtd. IPS.

Mail: Shoaib\_khan567@yahoo.com

Free Website: www.reasoningmath.com

www.Elmdeen.com